



سوال

(330) نذر کا کفارہ

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

میں نے نذر مانی تھی کہ اگر مجھے نوکری مل گئی تو ہر ماہ اپنی تنخواہ کا پندرہ فیصد اللہ کی راہ میں خرچ کیا کروں گا، مگر اب حالات ایسے بن گئے ہیں کہ اخراجات کی زیادتی کی وجہ سے ایسا کرنا ممکن نہیں رہا، کیا ایسی کوئی راہ موجود ہے کہ میں اس نذر سے نکل جاؤں، یا مجھے مسلسل اس پر عمل کرنا پڑے گا۔؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

شریعت میں نذر ملنے کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نذر ملنے سے منع فرمایا ہے جو یہ سمجھتے ہوئے مانی جائے کہ اُس سے تقدیر بدل جائے گی۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت ہے۔

”انذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النذر ویقول انہ لایرذینا وانا نینخرج بہ من البخیل“ مسلم۔ الودود

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نذر ملنے سے منع کرنے لگے اور فرمانے لگے کہ وہ کسی ہونے والی چیز کو پھیر نہیں سکتی، البتہ اُس کے ذریعہ سے کچھ مال بخیل سے نکلوا لیا جاتا ہے۔“

حدیث کے آخری فقرے کا مطلب یہ ہے کہ بخیل لوگوں تو راہ خدا میں مال نکلنے والا نہ تھا، نذر کے ذریعہ سے اس لالچ میں وہ کچھ خیرات کر دیتا ہے کہ شاید یہ معاوضہ قبول کر کے اللہ تعالیٰ اس کے لیے تقدیر بدل دے۔

دوسری روایت حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے یہ ہے کہ حضورؐ نے فرمایا

”انذ لا ینفخ شینا ولا یخفہ وانا نینخرج بہ من البخیل“ (بخاری و مسلم)۔

”نذر نہ کوئی کام پہلے کرا سکتی ہے، نہ کسی ہوتے کام میں تاخیر کرا سکتی ہے۔ البتہ اس کے ذریعہ سے کچھ مال بخیل کے ہاتھ سے نکلوا لیا جاتا ہے“

اب اگر آپ کے لئے اس کو پورا کرنا مشکل ہو رہا ہے تو آپ اس کا کفارہ ادا کر کے اس سے نکل جائیں، نذر کا کفارہ، قسم توڑنے والا ہی ہے۔



نبی کریم نے فرمایا:

”كفارة النذر كفارة اليقين“ (مسلم: ۲۲۳۳)

نذر کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے۔

اور قسم کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کیا جائے، یا (10) دس مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے یا (10) دس مسکینوں کو کپڑا پہنایا جائے، اور اگر ان تینوں کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی کرنے کی استطاعت نہ ہو تو (3) تین دن کا روزہ رکھ لے۔

آپ ان چاروں قسم کے کفارہ جات میں سے کسی ایک کو ادا کر کے نذر کی ادائیگی سے بری الذمہ ہو سکتے ہیں۔

حداماعندی والنداعلم بالصواب

فتاویٰ شناسیہ

جلد 2